can be better utilized in the economic development of the country

Women's workforce

Minister for Industry and Production Rana Tanveer

/asian\_telegraph

/theasiantelegraph

/company/theasiantelegraph

.theasiantelegraph.net

Price Rs 8 Pages 4

### **President for** further boosting bilateral cooperation with UK

VOM Report

ISLAMABAD: President Asif Ali Zardari on Thursday said that Pakistan and the United Kingdom (UK) enjoy cordial relations, rooted in history and shared legacy, which have been reinforced by high-level interactions and people-to-people contacts over the years. He stressed the need to further strengthen trade and economic ties for the mutual benefit of the two friendly countries.

The president expressed these views while talking to the British High Commissioner to Pakistan, Jane Marriott, who called on him, at Aiwan-e-Sadr. Both sides exchanged views on matters of bilateral importance. During the meeting, the president expressed his warm sentiments for His Majesty King Charles III and the Princess of Wales, Catherine Middleton, and wished them good health. He also mentioned that the people of Pakistan held His Majesty the King in high esteem. Talking about the economic situation of the country, the president stated that the stabilization of the economy was the priority with a key focus on employment generation and poverty alleviation.

The president highlighted that climate change posed a serious challenge to Pakistan as it was among the most vulnerable countries to climate change.

He informed the high commissioner that Sindh had mangrove forests, covering an area of 600,000 hectares, which supported the coastal ecosystem, besides contributing to environmental sustainability. He said that Pakistan had huge potential for solar and wind energy, and their proper utilization could help the country meet its energy requirements.

Jane Marriott felicitated President Asif Ali Zardari on assuming the office of the President of Pakistan

#### Development of SMEs govt's top priority: Rana Tanveer

ISLAMABAD: Minister for Industry and Production Rana Tanveer Hussain reaffirmed on Thursday that the development of Small and Medium Enterprises (SMEs) is the government's top priority.
While presiding over a high-level meeting, the minis-

ter received a detailed briefing about SMEDA's working from its Chief Executive Officer (CEO), said a news release. The minister said that small and medium industries were playing an important role in the country's economic development.

The government will facilitate SMEs to achieve economic development. SAMEDA should focus on human resource development to work effectively. he added. Rana Tanveer said that women play an important role in the economic development of the country and urged SMEDA to focus on women's entrepreneurship. Women's workforce can be better utilized in the economic development of the country, he added.



ISLAMABAD: The British High Commissioner to Pakistan, Ms Jane Marriott, calls on President Asif Ali Zardari, at Aiwan-e-Sadr. APP

# PM lauds Pakistan Navy for safeguarding country's maritime interests



VOM Report

ISLAMABAD: Prime Minister Shehbaz Sharif on Thursday visited the Naval Headquarters here wherein he appreciated the services of Pakistan Navy to safeguard the maritime interest of the country despite limited resources. The prime minister, who was accompanied by the federal ministers, especially lauded the professional response of the Pakistan Navy to foil the recent terrorist attack on Naval Airbase Turbat.

Upon arrival, the prime minister was welcomed by the Chief of the Naval Staff, Admiral Naveed Ashraf and was presented Guard of Honour by a smartly turned out naval contingent. The prime minister also laid a wreath at the Shuhada monument and afterwards was introduced to the Principal Staff Officers of Naval Headquarters.

During the meeting, matters pertaining to the

Regional Maritime Security milieu and operational readiness of the Pakistan Navy were

The Naval Chief apprised the prime minister on roles, capabilities and future modernization plans of the Pakistan Navy.

Later on a detailed briefing was presented by Deputy Chief of Naval Staff (Operations) on the prevailing maritime environment, challenges being faced by Pakistan Navy and its response to meet the challenges.

The prime minister was especially apprised about the capability requirements of Pakistan Navy to meet the current and future challenges being faced by the country in the maritime domain. He was also apprised of the measures to benefit from economic prospects of the maritime sector.

Prime Minister Shehbaz stres economy held the key to meet all the challenges faced by the country. Towards the end, the prime minister also visited the Command Operations Centre of Pakistan Navy.

The naval chief thanked the prime minister for his visit and reposing his confidence in the Navy. He also assured that Pakistan Navy with Allah's help would continue to defend the country's sea frontiers and maritime interests and would shoulder the responsibilities with honour both during peace and war.

#### **Chief Representative** of CFFEX in Pakistan and PSX Director meet **Finance Minister**



ISLAMABAD: The Finance Minister, Muhammad Aurangzeb on Thursday held a meeting with You Hang, the Chief Representative of China Financial Futures Exchange (CFFEX) in Pakistan, and Directors of the Pakistan (CFFEX) in Pakistan (CFF tor of the Pakistan Stock Exchange (PSX).

The meeting focused on enhancing cooperation and exploring new opportunities for strengthening Pakistan's financial markets and investment landscape. During the meeting, Finance Minister Aurangzeb and Chief Representative Hang engaged in detailed discussions on various aspects of financial market development, including the potential for collabora-tion between CFFEX and PSX to promote innovative financial instruments in Pakistan.

The Finance Minister highlighted the government's commitment to implementing reforms aimed at improving the regulatory framework, enhancing market transparency, and facilitating the development of a vibrant and resilient financial sector in Pakistan.

He also emphasized the role of strategic partnerships with international financial institutions and exchanges, such as CFFEX, in achieving these objectives and advancing the country's financial market infrastructure. Chief Representative Hang expressed CFFEX's keen interest in collaborating with PSX and other stakeholders to explore opportunities for launching new financial products, sharing technical expertise, and promoting cross-border investment between China and Pakistan. He reaffirmed CFFEX's commitment to supporting the development of Pakistan's financial markets and contributing to the country's economic prosperity. In the end, PSX also extended an invitation to the Federal Minister Muhammad Aurangzeb to participate in upcoming financial sector events and visit key financial institutions in Pakistan to have an overview of the financial market dynamics and regulatory environment.

The meeting concluded with both parties agreeing to further explore potential areas of cooperation, facilitate knowledge exchange, and develop actionable strategies to strengthen Pakistan's financial markets.



ISLAMABAD: Commerce Minister Jam Kama! Khan presenting a souvenir to Turkish Ambassador Dr. Mehmet Pacaci during his visit to the Commerce Ministry.

### Federal Interior Minister and KP Chief Minister discuss peace & security

PESHAWAR: Federal Interior Minister Mohsin Naqvi and Chief Minister Khyber Pukhtunkhwa Ali Amin Gandapur held discussions on matters related to peace and security in the province here on Thursday.

The Interior Minister visited the Chief Minister's House in Peshawar to discuss law and order and other security issues with Chief Minister Ali Amin Gandapur. They both agreed on

improving coordination between federal and provincial authorities to enforce laws aimed at enhancing peace and security in the province. They condemned the recent attacks on Chinese nationals and expressed sympathy with the Chinese government and families of the deceased. It was decided in the meeting to bring the perpetrators of the incident to justice and eradicate terrorism

Ali Amin Gandapur emphasized that peace and security are top priorities for the provin-



cial government and ensuring the protection of life and property of the people is the foremost objective. He mentioned that efforts would be made to strengthen the police and other law enforcement agencies in the province. The Chief Minister also stated that concrete steps would be taken under a coherent strategy to achieve this objective. He added that Khyber Pakhtunkhwa has been most affected by terrorism and is at the forefront in the war against terrorism. APP

#### **Govt. taking every** possible step to increase IT exports, FDI: Shaza

ISLAMABAD: State Minister for Information Technology and Telecommunication, Shaza Fatima Khawaja. Thursday said that the present government was diligently pursuing measures to attract foreign direct investment (FDI) and boost IT exports

During a discussion with a high-level delegation from the Pakistan Software Houses Association (P@SHA), led by its Chairman, Muhammad Zohaib Khan, Shaza Fatima highlighted the critical role of the IT industry, particularly in providing international-level training to youth and creating employment opportunities for them. The Chairman P@SHA extended congratulations to Minister of State for IT, Shaza Fatima Khawaja for assuming the office. The minister said that Pakistan's IT professionals can serve as the premier choice for international companies and urged P@SHA to assist in bridging the demand-supply gap of IT professionals. Zohaib Khan reaffirmed P@SHA's commitment to collaborating with the Ministry of IT for the economic stability of the country. He commended Minister of State for IT. Shaza Fatima, for her dedicated efforts in promoting the IT industry.

### Misinformation, disinformation, fake news problems of entire world, says Attaullah Tarar



ISLAMABAD: Federal Minister of Information and Broadcasting Attaullah Tarar said on Thursday that misinformation, disinformation. and fake news were problems of the entire world which had to be controlled.

During a meeting with the Political Counselor of the British High Commission Miss Zoe Ware,

the minister said the biggest challenge on social media was fake news and the government was dealing with this problem.

In the meeting, relations between the two countries, and the promotion of cooperation in the fields of media were discussed in detail. Cooperation in the fields of film and drama was also discussed.

Attaullah Tarar said that journalists should adopt the process of verification on social media and the whole world should develop a code of conduct related to social media.

Miss Zoe Ware congratulated the Pakistan Muslim League (Nawaz) on forming the government and Attaullah Tarar on assuming charge as Minister of Information and Broadcasting. The UK diplomat assured her full cooperation for the promotion of bilateral relations between Pakistan and the United Kingdom. VOM Report

# PMDC's int'l recognition 'historic milestone' for Pakistan's health industry, says Ahsan Iqbal

ISLAMABAD: Minister for Planning, stone in the history of medical educa-Development and Special Initiatives Ahsan Igbal on Thursday said the recognition of Pakistan Medical and Dental Council (PM&DC) by the World Federation for Medical Education was a testament to Pakistan's commitment to excellence in healthcare and medical education.

"An effective healthcare system's greatest indicator is to ensure that all citizens, despite their socioeconomic background, get the best available health facilities in a timely, acceptable, affordable, and accessible manner," he said while addressing a ceremony held to commemorate a significant mile-

tion and healthcare in Pakistan.

The minister commended the collective efforts of healthcare professionals, educators, policymakers and stakeholders who tirelessly worked towards enhancing the standards of medical education and healthcare delivery in Pakistan, a news release

Highlighting the notable progress of Pakistan's healthcare sector over the past decade, the minister shared that 3.5 percent increase in life expectancy from 2005 to 2019 was recorded.

In the area of infant mortality, he said from 2000 to 2019, with an infant mora 15 percent decline was recorded tality rate of 58 per 1,000 live births.



Remarkable increase was also marked health facilities," the minister stated. in the number of healthcare facilities, which grew up to 20 & from 2007 to 2017, resulting in a total of 7,089 healthcare facilities.

Ahsan Iqbal emphasized that a concerted effort from all stakeholders was required to achieve the country's roadmap for health, which aimed to bridge disparities in healthcare access among poor, expand healthcare services and make universal healthcare a possibility for every citizen.

"Doctors play a critical role in strengthening can advocate for increased government funding and improved working conditions in public

One of the foremost challenges is to reduce disparities in healthcare access across all socioeconomic groups, as evidenced by the fact that the poorest 20 percent of the population use only 13 percent of healthcare services.

Citing examples from developed countries, the minister urged Pakistani to take lessons from Singapore and Japan for prioritizing preventative measures, Norway and Estonia for using telemedicine, Canada and New Zealand for drug price negotiation with pharmaceutical companies, and Germany and Switzerland for mandatory health insurance for all citizens.

Pakistan's commitment to address healthcare challenges, such as rural healthcare, health equity, and medical professional shortages, stems from an urgent need to transform the existing healthcare system.

The minister expressed confidence in government's dedication to follow a carefully planned approach that will ensure awareness building, access enhancement, and data usage for health related decisions

He congratulated PMDC on being accredited by World Federation for Medical Education and subsequently paving a brighter future for medical education in Pakistan, APP

Editor-in-Chief: Amna Munawwar Awan Editor: Muhammad Hasam Office # 408, 4th Floor, Evacuee Trust, Agha Khan Road, F-5/1 Islamabad Phone: +92 51 8354964

### Terror rising

errorism has become a complicated problem worldwide, and in recent years, statesponsored terrorism has become a major worry. Incidents like the 9/11 attacks have highlighted the frequency of activities carried out by intelligence organizations such as the Indian Research and Analysis Wing (RAW), endangering the stability and sovereignty of adjacent countries. Even in the face of international rules that oppose meddling in the domestic affairs of sovereign governments, RAW's long history of interventionism and espionage, which dates back years, continues to influence the way it approaches regional geopolitics. RAW operates with a mandate that goes beyond traditional information gathering, frequently using disruptive measures to assert India's regional influence. This mandate is influenced by doctrines like Kautilya's Arthashastra.

RAW was created in 1968 to strengthen India's external intelligence capabilities in the wake of the country's intelligence lapses during the India-China border war. Since then, though, its purview has broadened to include a variety of clandestine operations, including meddling in nearby conflicts and domestic political matters. With a great deal of autonomy in carrying out its mission, RAW operates directly under the Indian prime minister. Although RAW's stated purpose is as an external intelligence organization, its engagement in domestic Indian affairs highlights its multifarious role in moulding the country's foreign and domestic policies, frequently obfuscating the distinction between covert operations and intelligence collection. Narendra Modi's tenure as India's prime minister has been characterized by Hindutva, a nationalist movement based on Hindu supremacy. Allegations of extremism and state-sponsored violence have resulted from the growing adoption of this ideology by state institutions, including intelligence services, under his leadership. A disturbing example of this trend is the alleged participation of Indian operatives in a plot to kill a Sikh leader in the US. The conspiracy to assassinate American Sikh leader Gurpatwant Singh Pannu has sent shockwaves through the international community, prompting investigations and condemnations. The purported participation of Indian intelligence operatives in the conspiracy to kill Pannu is not a singular event, but rather a component of a larger trend of state-spon

#### This pattern is further reinforced by reports that connect Indian operatives to the murder of Sikh leader Hardeep Singh Nijjar in Canada


sored terrorism with international implications.

This pattern is further reinforced by reports that connect Indian operatives to the murder of Sikh leader Hardeep Singh Nijjar in Canada, presenting a worrisome image of stateapproved extrajudicial violence. Such claims highlight the pressing requirement for an extensive probe into the operations of the Indian intelligence establishment and the involvement of government players in terror attacks abroad. The world community has taken note of the seriousness of India's suspected state terrorism. Comments by international leaders like Canadian Prime Minister Justin Trudeau and the testimony by US Assistant Secretary of State Donald Lu before the US Congress Committee revealing the depth of India's alleged state terrorism, implicating Indian government officials in the nefarious plot, should be taken as strong warnings in response to the allegations.

Due to the seriousness of the situation, Washington brought up the matter with New Delhi, straining diplomatic ties and raising questions about state actors' accountability for committing acts of violence outside of their boundaries. The world waited anxiously to see India's response to the severe charges as charges grew but to no avail and Western media outlets examined the details of the plot. The gravity of the situation and the pressing need for an open inquiry into India's intelligence operations are highlighted by their demands for justice and responsibility. The world is waiting impatiently for India's reaction to the accusations that have damaged its reputation globally, as diplomatic tensions boil and calls for action intensify. World peace and security have been seriously threatened by terrorism ever since the turn of the 21st century. By using various forms of coercion, Indian RAW was able to create, arm, train, and finance terrorist groups like the TTP and various militant outfits in Pakistan, and in other countries. India attempts to destabilize the target nation to undermine its economic progress or exert control over its economy. It is time for regional countries to be united and take action against Indian aggression. The purported engagement of Indian intelligence operatives in the plot to kill Sikh leaders overseas signifies the perilous intensification of state-sponsored terrorism that carries extensive consequences.

India's intelligence agencies are accused of forsaking their duty to maintain national security in favour of extrajudicial measures meant to advance the goal of the ruling regime, all under the shadow of Narendra Modi's leadership. Those guilty must be held accountable as the world community struggles to deal with the impact of these discoveries. Ensuring justice for the victims of state-sponsored terrorism and breaking the dark web of Indian intelligence requires transparency, accountability, and respect for democratic norms. The only way to reveal the shadow world of Indian intelligence and open the door to a future free from oppression and tyranny is by working together to defend rule of law.

The writer is a freelance contributor and writes on issues concerning national and regional security. She can be reached at: omayaimen333@gmail.com



recent article in these pages ('Reckborrowing', March 18), while appreciated for its candidness. has also evoked a strong sense of despondence among readers.

The question that pervades everyone's mind is how to escape the spiral and whether there is a way out. I must confess that, having waded through both articles and TV programs by economic experts, I have noticed a complete paucity of practically implementable steps for building a journey towards generating foreign revenue. I share below my thoughts based on observations and experiences in countries I have visited and worked in.

The core point is to appreciate that the country must earn, and not borrow, foreign exchange for its domestic consumption. Unless we have more resources, we must curb and rationalize expenditure. This requires the courage to allow 'wrong' businesses to close and radical diversification and upscaling of exports with the help of international collab-

Our present preoccupation with protecting import substitution and building exports exclusively off local raw materials or produce will continue to retard our export aspirations. Successful countries look outward to identify gap trends in international demand in the medium term and build and revamp their capacity to service this need gap. This is radically different from our current approach.

Let me share strategies adopted by countries facing similar crises that enabled them to successfully turn around their economies while living within objectives similar to Pakistan's. This warrants building a national consensus supported by all political parties. For this, we first need to be transparent with the nation to prepare people for short-term dislocation and hardship, with a view to the light at the

# Learning from better economies

end of the tunnel.

First, new FDI should initially be only permitted into predominantly export-generating projects, not import substitution. We have examples to consider here: Malaysia initially required foreign investors to seek cabinet approval which was only given if the project was wholly for exports.

India adopted a similar strategy and it permitted Honda and Coke to invest in the country if the project generated \$5 foreign currency income for every \$2 of foreign exchange consumed by this investment by way of imports, other foreign expenses, royalties and profit repatriation.

Second, existing businesses and manufacturers - whether local or foreign-owned – should be informed that they are welcome to sell products and services to meet domestic demand but they must generate their own foreign exchange (through expansion into exports ) for their import needs or source this in a Dutch auction of residual foreign currency left over after the government had met essential needs like foreign currency debt repayment, and other critical essentials (including, oil, defence, exporters' import needs).

For instance, Nigeria in 1983 when faced with a similar foreign currency crisis announced that it could no longer underwrite the nation's foreign currency consuming demand by increasing the country's foreign currency borrowings. Today, despite similar corruption levels and other fiscal indiscipline, this bankrupt country now boasts a Sovereign Fund as a consequence of importsubstituting businesses either dying or retooling and expanding into becoming world-class exporters.

Third, instead of relying on building the export momentum on the back of existing local businesses that had developed a local delivery capacity, countries opted for new manufacturing directly for export for which there was no past local experience. In the early 1980s, South Korea started exporting washing machines its local population had not seen or used washing machines. Thailand started manufacturing motor vehicles from scratch at scales, quality and prices that made them competitive for export. Malaysia similarly launched chip manufacturing in Penang in the '90s directly for export without any local use. Vietnam likewise boasts multiple such export projects; China's toy manufacturing in the late 1980s is another example. Fourth, the government must admit to the nation that it does not have the capacity to underwrite domestic foreign currency-fueled demand as it cannot afford to increase the country's foreign debt burden which would have to be borne by future generations. A similar strategy was adopted by Nigeria in the 1980s.

Fifth, a radical shift in agricultural production out of low revenue-vielding crops into higher revenue-generating crops for exports. This policy is complemented by a shift away from a dated perspective of meeting food security through domestic production to instead importing the lower cost crops the production of which has been de-emphasized. It is important to note that China over the past 20 years has de-emphasized production of low-revenue grain (which it now imports) and instead increased from 15 per cent to 55 per cent the proportion of acreage deployed for growing higher-value fruits and veg-

etables Similarly, Malaysia has progressively de-emphasized the growing of rubber trees and vegetables and has shifted its arable acreage to oil palm agriculture

Sixth, building a national consensus on how the country's scarce foreign currency should be rationed to maximize sustainable benefits for the country. A prime example to consider is that of Britain. In the 1970s, after the oil price hike, when faced with a severe foreign currency crunch Britain televised multiple national debates to determine how the population would prioritize its foreign currency-consuming choices.

to the Gulf countries - even when Seventh, the export of raw commodities and minerals should be discouraged/prohibited and instead process ing for local value addition should be

made mandatory and incentivized. This has been done before. Nigeria over the late 1980s and 1990s reduced crude oil export and invested in refining, crackers and petrochemical plants to convert crude oil into value-added products for exports. Multiple Asian countries including India have also adopted this approach for minerals and commodities extraction.

Eighth, understand the importance of free-floating the exchange rate. The government should not give in to the temptation to manage the currency rate as this will result in greater fiscal deficits or an increase in unaffordable external borrowing. This encourages imports and inhibits exports. Pakistan's history of deteriorating balance of trade over the past 70 years illustrates the folly of not adopting this discipline.

Ninth, the country must avoid fiscal deficits. Cut the government's role to what it can afford based on the revenue it earns. The absence of this discipline causes inflation which causes greater poverty for the poor and middle classes; loan interest rates to rise, inhibiting manufacturing and employment; it increases the government's future debt service obligation further and reduces its future capacity to spend on current needs; and results in spiralling depreciation of the currency

This caution is further heightened for Pakistan given the current government's desire to invest in affordable housing, more public transport healthcare, education and tree plant ing Nigeria followed eight out of the nine points. It consequently illustrates all the negative consequences tabulated above. OECD countries by adopting this discipline in the last two decades reflect the consequent benefit of low inflation throughout

The writer is the former president of United Bank Limited (UBL).

Disclaimer: Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect The Asian Telegraph's point-of-view

# History of Pakistan

provinces.[43][44] Intense communal rioting in the Punjab forced the governments of India and Pakistan to agree to a forced population exchange of Muslim and Hindu/Sikh minorities living in Punjab. After this population exchange only a few thousand low-caste Hindus

Punjab which did not apply to other remained in the town of Malerkotla that up to then, twice as many Musgenocide' between the religions. [54] in India's part of Punjab.[45] Political scientist Ishtiaq Ahmed says that although Muslims started the violence in Punjab, by the end of 1947 more Muslims had been killed by Hindus and Sikhs in East Punjab than the number of Hindus and Sikhs who had been killed by Musremained in Pakistani Punjab and lims in West Punjab.[46][47][48]

However, an exception was made for only a tiny Muslim population Nehru wrote to Gandhi on 22 August have described as a 'retributive lims had been killed in East Punjab than Hindus and Sikhs in West Punjab.[49] More than ten million people

> migrated across the new borders and 200,000 between 2,000,000[50][51][52][53] people died in the spate of communal violence in the Punjab in what some scholars

The Pakistani government claimed that 50,000 Muslim women were abducted and raped by Hindu and Sikh men and similarly the Indian government claimed that Muslims abducted and raped 33,000 Hindu and Sikh women.[55][56][57]

To be continued.....

Tech

### **Showbiz**

### Emma Stone teams up with Oscarwinning director for latest movie


The new movie, 'Kinds of Kindness', releases first trailer

The award-winners, Emma Stone and Yorgos Lanthimos has announced latest movie together, Kinds of Kindness. Searchlight Pictures released the first teaser trailer on Wednesday, featuring Stone, who recently won her second Academy Award for her role in Poor Things, and filmmaker Lanthimos, who are collaborating for their third project since The Favourite in 2018.

The 46-second teaser showcases Stone driving a purple car and hints at appearances from an ensemble cast that includes Willem Dafoe, Margaret Qualley, Jesse Plemons, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie, and Hunter Schaefer. Although the

trailer doesn't reveal much about the plot, it ends with Stone's character driving into a parking lot at what appears to be an apartment complex. The teaser is set to the tune of Eurythmics' 1983 hit Sweet Dreams (Are Made of This).

"Kinds of Kindness is a triptych fable, following a man without choice who tries to take control of his own life; a policeman who is alarmed that his wife who was missing at sea has returned and seems a different person; and a woman determined to find a specific someone with a special ability, who is destined to become a prodigious spiritual leader," reads an official synopsis for the movie.



### WhatsApp's latest update surprises users

being released by WhatsApp and is accessible to a selected group of beta testers. This is intended to draw attention to the call type more clearly, emphasising that it is end-to-end encrypted. There is

also a new button on the bottom sheet that allows you to easily add other participants to the according WABetaInfo

It seems that WhatsApp is currently trying to make this screen even better by adjusting the interface and boosting specific components to make the user experience better. WhatsApp is adding a new minimise

button to replace the back shortcut, improving the feature's usability and navigation during talks. The minimise button provides a more user-friendly way to depart the

A tweaked interface for the calling screen is call screen than the back button, even though they are both for the same goal.

This update resolves a common user complaint in which pressing the back button was inadvertently interpreted by ending the call.

WhatsApp addresses this problem by introducing the minimise button, which gives users an obvious method to leave the call screen without ending the current call. WhatsApp streamlines

user interaction inside the calling interface by substituting a more natural back shortcut. Additionally, WhatsApp embeds such

buttons into unique forms to contrast with the calling screen's background, ensuring that they are always visible and distinctive.



## How your mom's pregnancy cravings shape your appearance

You are beautiful but have you ever wondered why you are that way? Well, you should thank your mom's pregnancy cravings for your great

A new research exploring the origins of facial features found that a pregnant mother's diet may influence certain facial features from the womb, potentially creating the appearance of her children, the New York Post reported.

The study, which was recently published in the journal Nature Communications, linked a mother's protein levels to gene activity, specifically mTORC1 genes, which influenced the "craniofacial shape of the embryos"

According to the study, high-protein diets resulted in stronger jawlines and bigger noses, while low-protein diets resulted in slimmer, pointier features.

In other words, the mother's nutrition may "fine tune" her children's facial traits, such as the size and form of their jaw or nose.

The team of international researchers genetically manipulated pregnant mice and zebrafish and fed them diets varying in nutrition level. They then observed them before concluding the

Although these findings are new, previous studies have shown that mothers' diets, particularly those involving vegetables, have been linked to better child health outcomes.

One of the previous studies indicate that obese mothers increase the risk of overweight boys at birth who may develop metabolic conditions like fatty liver disease later in life.

Additionally, another research suggests that ultra-processed food consumption by mothers can pass harmful chemicals to their fetuses, further highlighting the negative health consequences of such food consumption.





را نامشهو دا ورمختار بھرت

وزیراعظم کے کوآ رڈینیٹر مقرر

اسلام آباد (شی رپورٹر)وزیر اعظم

شہباز شریف نے را نامشہود احمہ خان اور

ڈاکٹر مختار بھرت کو کوآ رڈیٹیٹر مقررکر دیا

، ذرائع کے مطابق رانا مشہود احمد خان

وزیرِ اعظم پوتھ افئیر ز کے کوآ رڈینیٹر مقرر کیا

گیا ہے ، را نامشہو د احمد خان اعزاز طور پر

ذ مه داریاں سر انجام دیں گے جبکہ ڈاکٹر

مختار بھرت نیشنل ہیلتھ سروسز ، ریگولشن اینڈ

کوآرڈ پنیشن کا کوآرڈ پنیٹر مقرر کیا گیا

ہے، وزیرِ اعظم شہبا زشریف کی جانب سے

دونوں ناموں کی منظوری کے بعد کا بینہ

ڈویژن نے دونوں کا تقرری کا نوٹیفکیش

عمران خان سميت تمام قيد يول سے

ملاقاتون يريابندي حتم

یی ٹی آئی عمران خان سمیتِ دیگر قیدیوں سے

ملا قاتوں پر پابندی ختم کر دی گئی۔ پنجاب حکومت

نے 12 مارچ کوسکیورٹی خدشات کے باعث بانی

یی ٹی آئی سمیت دیگر قید بول سے ملاقاتوں پر دو بنقير كيلئة بإبندى عائد كردى تقى جوجمعرات كوختم كر

دی گئی۔اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ اسد جاوید وڑا کچ نے ماہندی کے خاتمے کی تقدیق کرتے موئے کہا کہ عمران خان ، شاہ محود قریثی اور پرویز

الهی سمیت دیگرتمام قیدی طےشدہ طریقه کار کے

مطابق ملا قانتوں ہے مگ سکیں گے۔واضح رہے کہ

دو ہفتے ِ قبل سی ٹی ڈی اور پولیس نے مشتر کہ

كارروائي كے دوران الحيالہ جيل كے قريب حملے كى

لوشش ناكام بناتے ہوئے تربیت یافتہ

ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے کہا ہے کہ عیدالفطریر

ساحول کی مکنه آمدے موقع پرانتظامید کی جانب سے

بہترین انتظامات کیے جائیں گے۔21 رمضان

المبارك كو يوم على اورايسر كے موقع پرسيكيور ألى كے

فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ٹریفک مینجمنٹ

لان مرعملدرآ مدیقینی بناما جائے گا۔ان خیالات کا

ظہار انہوں نے عید الفطر کے موقع پر انظامیہ کی

لبنان براسرائيلي حملول ميں

9افرادجال بحق،7زخي

بیروت ( مانیٹرنگ ڈیسک )لبنان پر اسرائیلی

حملوں میں 9افراد جال تجق اور 7زخمی ہو گئے

ہیں۔عالمی میڈیا کے مطابق لبنانی فوجی ذرائع نے

بتایا کہ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے کئ قصبوں اور

ويهاتول برفضائي حملے كيد دوسرى جانب إلبنان

كى عظيم حزب الله في كها بكداس كجنابول

نے کریات شمونہ بیرکوں میں اسرائیل کی

وبشتكر دول كوكرفنار كيانها

راولینڈی (بیورور بورٹ) اڈیالہ جیل میں بانی

ماهانه فیول ایڈجسٹمنٹ کی مدمیں

بجلی 5روپے فی یونٹ مہنگی

لیے 5رویے فی پینٹ مہنگی کرنے کی ابتدائی سسکرنے سے قیت بڑھی،آپ جب مہنگی ایل این منظوری لے لی گئی، اضافہ فروری کی ماہانہ فیول ہی پر پاور پلانٹس چلائیں گےتو بجلی مہنگی ہوگی میمبر

ایف سی اے کی مدمیں درخواست پرساعت مکمل کر 💎 اور صارفین کا الگ نقصان ہور ہا ہے، مہنگے یاور لى، قيمتوں ميں اضافے ہے متعلق حتى فيصله بعد ليانٹس ڇلا كر سيسٹى حيار جز اور فيول حيار جز

پڑر ہا،طلب میں اضافے کے لیے کام کیوں نہیں 💎 یاور ڈویژن کے مطابق حکومت نے بجلی صارفین رہے ہیں، مقامی کو کلے سے بچلی کی پیداوار سے 1.2 ٹریلین وصول کرنے ہیں

ینجا ب حکومت کا کسا نوں کوسبسڈی

پرزرعی مشینری دینے کا فیصله

ہائی ٹیک زرعی مشنری پڑئیس اور ڈیوٹی ختم کروانے کیلئے وفاقی حکومت سے رابطہ

كياجائے گا،وزيراعلیٰ پنجاب

کسانوں کوسبسڈی بر 56اقسام کی زرعی مشیزی مزید بتایا گیا کہ 25ا گیڑتک زمین رکھنے والے

دینے کا اصوبی فیصله کرلیا۔وزیراعلی پنجاب مرتبم کاشٹکاروں کو 2سال میں سوار سسٹم مہیا گئے

فیصلہ کیا گیا، وزیراعلیٰ نے متعدد زرعی پراجیکش ہے۔اجلاس کے دوران کا شتکاروں کو 60 فیصد

بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ہائی ٹیک لیزر لیوار الطلع 6ماہ میں دیئے جا<sup>ک</sup>

ہے، میکانائزیشن بلان کے تحت 3ماہ میں دو ۔ ویل پراجیک کی بھی اصولی منظوری د۔

رب کی لاگت سے زرعی مشینری خریدی جائے ۔ دی۔اجلاس کے دوران وزیراعلی پنجاب ۔

2سالہ میکانائزیشن پلان کے تحت 23ہزار 10ارب رویے کی لاگت سے 1200 کھالے

زرعی آلات اور 2 ہزار 280 لیزر لینڈ لیولنگ کیے ہوں گے جُبکہ دوسرے مرحلے میں صوبہ بھر

لا ہور، پنجاب وزیراعلیٰ مریم نوازشریف رنگ روڈ سدرن ٹویتھری منصوبے کا دورہ کررہی ہیں

اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تفصیلات کے مشرکت کی۔اے ڈی می آرمری کیپٹن (ر) قاسم اعجاز

مطابق كمشنر راولینڈی ڈویژن انجینئر عامر خنگ کی 🏻 نے نمشنر راولینڈی کوعیدالفطر کے موقع پرانتظامیہ کی

مِنعقد ہوا۔اجلال میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیومری 🗸 راولینڈی ڈویژن انجینئر عامر خنگ نے کہا کہ عید

لا ہور (بیورور بورٹ) سپیکر پنجاب اسمبلی معاملات میں ارینجمنٹ کا معاملہ ہو سکتا ہے،

تحقیقات ہوسکتی ہیں، بطورا دارہ کسی کا نام لے کر 💎 عدالتوں میں 2018 سے 2024 تک بید دھندہ

جانب سے کیے گیے اقدامات کے خوالے سے

بریفنگ دی۔اجلاس سےخطاب کرتے ہوئے کمشنر

الفطر پرساحوں کی ہوی تعداد ملکہ کو ہسارم ی ساحت

سینیٹ انتخابات میں کوشش کی تمبرز کے حساب

سے سیٹیں مل جائیں ۔ججز کے خط کے معاملے کے

حوالے سے سپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ

<mark>چلتا رہا، اس دور کے واقعات پر خط پر کیوں نہیں</mark>

کھے گئے، پیندیا ناپیند سے ملک نہیں چل سکتا، خط

میں ایک دووا قعات کی تحقیقات ہوسکتی ہیں ، بطور

ادارہ کسی کا نام لے کر ان کا مورال نہیں گرانا

<mark>جا ہے۔ملک احمد خان نے مزید کہا کہ پینگ</mark>

بازی موت کا کاروبار ہے،اسے چلنے نہیں دیں

گے، حکومت خونی تھیل نمیں ملوث عناصر ہے

آ ہنی ہاتھوں سے نمٹے گی، موٹر بائیک پرسیفٹی

یلان بر عملدرآمه تقینی بنایا جائیگا،عام خنگ

سیاحوں کی آمد پر انتظامیہ کی جانب سے بہترین انتظامات کیے جانمنگے،کمشنر راولینڈی

(ر) عبدالوہاب خان، بولیس میونیل کارپوریش کی غرض سے آتی ہے۔

راولینڈی (شاف ربورٹر ) کمشنر راولینڈی جانب سے مکنہ انظامات کے حوالے سے منعقدہ مری،ٹورازم سمیت دیگر ککموں کے سربراہان نے

زىرصدارت مرى ميس عيدالفطر كے موقع پرانتظاميك

جانب سے مکنہ انتظامات کے حوالے سے اجلاس

كيينن (ر) قاسم اعجاز، اسشنٺ كمشنر مرى كيپين

ملک احمد خان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ن لیگ

کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ، پیندیا ناپیند سے

ملک نہیں چل سکتا، خط میں ایک دو واقعات کی

ان کا مورال نہیں گرانا جاہیے، پتنگ بازی

موت کا کاروبار ہے، اسے چلنے نہیں دیں گے،

حکومت خونی تھیل میں ملوث عناصر سے آپہنی

ہاتھوں سے نمٹے گی، پنجاب اسمبلی آمدے موقع پر

سیڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سپیکر ملک احمد خان سیڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سپیکر ملک احمد خان

یبیں۔ نے کہا کہ سینیٹ کے انتخابات نمبرز گیم پر<sup>مظ</sup>

ہیں، پی پی چکومت کوسپورٹ کررہی ہے، پیپلز

تہیں۔انہوں نے کہا کہ صمنی انتخاب اور کچھ پروٹو کو لگنا جا ہیے۔

13.4 ارب رویے کی لاگت سے سبسڈی پر سین7ہزارکھالے یکے کئے جا ٹینگے،

جائیں گے مینوکل بوائی کی وجہ سے 12 فصد گندم اور 8 ا فیصد حاول کی پیدادار کم ہوتی

تنظوری بھی دے دی۔پہلے مرحلے میں

لا ہور (بیورور بورٹ) پنجاب حکومت نے 🐪 کاشٹکاروں کو دیئے جائیں گے۔بریفنگ میں

ایڈجشمنٹ کی مدمیں مانگا گیا۔نیپر ااتھارٹی نے

میں جاری کرے گی۔دوران ساعت ممبر نیپر انے

کہا کہ بجلی کی طلب کم ہونے سے صارفین پر بوجھ

اسلام آباد، وزیراعظم پاکستان شہباز شریف بحربیے ہیڈکوارٹر میں یادگار شہدا پر چولوں کی جا در چڑھارہے ہیں

كسانون تليئه انقلابي وتاريخي اقدامات لينه كا

گی،مشینری کاشتکاروں کوسیسڈی پر دی جائے

گی سیکرٹری زراعت نے بریفنگ میں بتایا کہ

نیرارفیق شخ نے کہا کہ ذرمبادلہ کا الگ نقصان

۔ بڑھائے گئے۔نیپر ااتھارٹی کےمطابق کیپسٹی میں

کی کے لیے بینچ مارکس طے کرنا ہوں گے۔حکام

جمعتدالمبارك29مارچ2024ء

# پوری قوم جراتمند سیکورٹی فورسز کیساتھ کھڑی ھے، شھباز شریف

امیر البحر سے ملاقات کے دوران علاقائی میری ٹائم سکیورٹی صورتحال اور پاک بحریه کی آپریشنل تیاریوں سے متعلق امور پر تبادله خیال،نیول چیف نر وزیراعظم کو پاک بحریه کر کردار، صلاحیتوں اور مستقبل کر جدید منصوبوں سر آگاه کیا

وزىراعلى پنجاب كالا موررنگ روڈ

سدرن لوپ تھری پراجیکٹ کا دورہ

لا ہور (بیورور پورٹ )وزیراعلی پنجاب مریم

نواز نے رنگ روڈ سدرن لوپ تھری پراجیکٹ کو

جلد مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔وزیر اعلی پنجاب

مريم نواز نے جعرات كى صبح لامور رنگ رود

سدرن لوپھری پراجیک کا دورہ کیا اورالی ایل خری پراجیک کی جلد محیل کا تھم دیا۔ مریم نواز نے رنگ روڈ ایس ایل فورکی تغیر کے لیے ضروری

اقدامات کی بھی ہدایت کی ،ایس ایل 4 مراکہ سے

شرقپور انٹر چینج ایم تھری تک بنایا جائیگا۔وزیراعلی

پنجاب نے رائیونڈروڈ اڈا پلاٹ سے مراکہ ملتان

روڈ تک پورے رنگ روڈ کا دورہ بھی کیا اور ملتان

روڈ رنگ روڈ انٹر چینج پر مقامی بودے لگانے کی

ہدایت کی۔اس موقع پروز براعلی پنجاب کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پراجیک کی تعمیل سے جنوبی

پنجاب سے آنے والی ٹریفک شہرسے گزرے بغیر

منزل بر ﷺ سکے گی، لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ تھری کے دونوں اطراف 8،8 کلومیٹر طویل

ہیں۔وزیراعلی پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ رنگ

ہیں، صحافیوں کوسوشل میڈیا پر تصدیق کے عمل کو

اینانا چاہیے،سوشل میڈیا سے متعلق یوری دنیا کول

كر ضابطه اخلاق تياركرنا هوگا۔وفاقی وزير

اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا

۔ ، ہے سر و سیمیو پرسپ سے بڑا چیلنج جعلی خبریں ہیں، صحافیوں سرچین

سوشل میڈیا سے متعلق بوری دنیا کومل کر ضابطہ

سی اتحاد کوسل کے ایم بی اے

احمررشيد بھٹی نے حلف اٹھالیا

لا ہور ( بیورور بورٹ )سی اتحاد کونسل کے

نومنتخب رکن صوبائی اسمبلی احمر رشید بھٹی نے حلف

اٹھا لیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ایک گھنٹہ

36 منك كى تاخير سے شروع ہوا، ڈيٹي سپيكر ظہير

اقبال چنو نے اجلاس کی صدارت کی۔اجلاس

کے آغاز ریسی اتحاد کونسل کے نومنتخب رکن پنجاب

اسمبلی احمر رشید بھٹی نے حلف اٹھا لیا، ڈیٹی سپیکر

ظہیرا قبال چنز نے نومنتخب رکن اسمبلی سے حلف

لیا۔قبل ازیں اسمبلی آ مد کے موقع پر میڈیا ہے

گفتگو میں احمررشید بھٹی کا کہنا تھا کہ 10 ماہ سے

ملک پر ظلم و بربریت قائم ہے، سینکڑوں لوگ

جیلوں میں ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے

ہیں، عدلیہ سے التماس ہے جیلوں میں قید بے

گناہ افراد کورہا کیا جائے۔انہوں نے کہا کہ

سیاسی قید بوں کور ہا کئے بغیر ملک آ گےنہیں بڑھ

سکتا، بارٹی قائدین نے مال روڈ پر احتجاج کیا ان پر دہشت گردی کی ایف آئی آرکاٹ دی

گئی، ایوان میں بیٹھےلوگ ہمارا مینڈیٹ چوری

کر کے بیٹھے ہیں

اخلاق تيار كرنا ہوگا،

وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ نیول ہیڈکوارٹر پہنچنے پر پاک اسلام آباد ( وقائع نگارخصوصی وزیر اعظم محمد شهباز وزيراعظم كوياك بحريد كحردار اصلاحيتون اورمستقبل كي بحربيك سربراه الدمرل نويداشرف في استقبال كيا جبكه شریف نے کہاہے کہ پوری قوم اپنی جرات مندسکیورٹی یاک بحریہ کے حاک وچوبنددستے نے وزیراعظم کو فورسز كے ساتھ كھڑى ہے حكومت معاثى ترقى ميں ميرى كَارِدُ آف آنرييش كيا وزيراعظم فيادگار شهداء ير پھولوں ٹائم سیٹر کی افادیت کے پیش نظراس کی ترقی کیلئے کوشاں ہے، تربت نیول ائیربیں پر دشتگر دحملہ ناکام بنانے پر

جدیدکاری کےمنصوبوں سے آگاہ کیا۔بعد ازال ڈیٹی چیف آف نیول اسٹاف (آپریشنز) نے موجودہ میری ٹائم ماحوليات، ياك بحريه كودر پيش چيلنجز اور چيلنجزيي نمٽنے کی جادر چڑھائی فاتحہ خوانی کی اور بعد ازاں نیول ہیڈکوارٹر کے لیے یاک بحربیک حکمت عملی کے بارے میں تفصیلی کے رئیبل اساف آفیسرزے ان کا تعارف بھی کرایا گیا بریفنگ دی گئے۔ وزیرِ عظم کومیری ٹائم ڈومین میں ملک کو درپیش موجودہ اور مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے امیر البحرے ملاقات کے دوران علاقائی میری ٹائم سيكورنى صورتحال اورياك بحريدكي آيريشنل تياريون

#### ہا ئیکورٹ کے ججز کے خط کا معاملہ، چیف جسٹس سے و ز ریاعظم کی ملا قات،اہم امور برتبادلہ خیال سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان

ملاقات ایک گھنٹہ 20 منٹ تک جاری رہی اسلام آباد (سپیش رپورٹر) اسلام آباد ہائی میں موجود تھے۔دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جوز کے خط کے معاملے پر پاکستان ورث کے 6 جز کے خط والے معاملے پر چیف بارکونس نے بھی 5اپریل کوایگزیکٹو مکیٹی کا اہم المسلس آف ياكستان قاضى فائزعيسى سيدوز براعظم شہباز شریف کی سپریم کورٹ میں ملاقات ہوگی 🕯 اجلاس طلب کیا ہے، جس میں پاکستان بار کونسل موجودہ صورتحال پرآئندہ کے لائحة عمل کا فیصلہ ش میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف کرے گی۔ ججز کے خط پر انکوائری کمیشن تشکیل کی درخواست بھی سپریم کورٹ میں دائر کی گئی جس میں وفاقی حکومت اور اسلام آباد ہائیکورٹ کے 6جوز

كشش قاضى فائز عيسى اور وزيراعظم شهباز شريف کے درمیان ملاقات ایک گھنٹہ 20 منٹ تک جاری رہی ،ملا قات کے بعد وزیرِ اعظم سپریم کورٹ سےروانہ ہو گئے۔ چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بچز کی طرف سے لکھے گئے خط کے حوالے سے وزیرِ اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے لیے بیغام بھجوایا تھا۔ملاقات میں وزیراعظم کے ہمراہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی

یاک بحریہ کے جوانوں کوخراج محسین پیش کرتے ہیں۔

ان خیالات کا اظهار وزیراعظم شهباز شریف نے نیول

ہیڈکوارٹر کے دورے کے دوران کیا۔دورے کے دوران

روڈ سدرین لوپ تھری سےعوام کوآ مدورفت میں جزل منصور اعوان بھی شامل نتے۔ سپریم کورٹ فائز عیسی اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان کے سینر ترین جے جسٹس منصور علی شاہ بھی ملاقات ملاقات ایک گھنٹہ 20 منٹ تک جاری رہی

کوبھی فریق بنایا گیا۔اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6

جر کے خط والے معاملے پر چیف جسٹس آف

یا کستان قاضی فائز عیسی سے وزیراعظم شہباز

شریف کی سپریم کورٹ میں ملاقات ہوئی جس میں

انهم امور پرتبادله خیال کیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی

اسلام آباد،وز راعظم شہبازشریف چیف جسٹس آف پاکتان جسٹس قاضی فاکز عیسیٰ کی ملاقات کررہے ہیں

### شوشل میڈیا ہے متعلق پوری دنیا کول کرضا بطہ اخلاق تیار کرنا ہوگا ، وزیر اطلاعات

رز براطلاعات سے برطانوی ہائی کمیشن کی لویٹیکل قوتصلر کی ملاقات،میڈیا کے شعبوں میں تعاون کے فروغ برتبادلہ خیال تعاون کے فروغ پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات کے بعد کہا کہ سوشل میڈیا پرسب سے بزاچیلتے جعلی خبریں

اسلام آباد (نامه نگار)وفاقی وزیراطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پرسب سے بڑا جاری اعلامیے کے مطابق وفاقی وزیر اور پولیٹیکل قونصلر کے درمیان فلم اور ڈرامہ کے شعبوں میں چیکنج جعلی خبریں ہیں، صحافیوں کوسوشل میڈیا پر تقىدىق كے عمل كواپنانا جاہيے، سوشل ميڈيا سے تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا جب کہ زوئی ویئر متعلق يورى دنيا كول كرضا بطه اخلاق تيار كرنا هوگا، نے پاک برطانیہ دوطرفہ تعلقات کے فروغ کیلئے تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز وفاقی سے برطانوی ہائی تمیشن کی لیکٹیکل قونصلرزوئی نے ملاقات کی جس میں

اییخ تعاون کا یقین دلایا۔اس دوران وفاقی وزیر طاً تارڑ نے کہا کہ س انفار میشن، ڈس انفار میشن اور فیک نیوز پوری دنیا کا مسئلہ ہے، ان تینوں یاک برطانیہ تعلقات اور میڈیا کے شعبوں میں چیزوں پر قابو یانے کی ضرورت ہے۔انہوں نے

ہے ہیں،مریم اورنگزیب فروغ پر بتادله خیال کیا گیا۔ سینئرصوبائی وزیرنے لا ہور (بیورور بورٹ )امریکہ نے پنجاب

مکومت کوسموگ اور ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے <mark>۔</mark> کے لیے ہرممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین ہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ سموگ اور حولیاتی مسائل سے خشنے میں امریکہ پنجاب حکومت کا ساتھ دے گا جبکہ سینئرصو بائی وزیرمری<mark>م</mark> ورنگزیب نے کہا ہے کہ سموگ کے خاتے، احولیات ہے متعلق قانون سازی اور قوانین کی بہتری پر کام کررہے ہیں۔امریکی قونصل جزل لرسٹن ہاکنز کی قیادت میں وفد نے سینئر صوبائی ز مریم اورنگزیب سے ملاقات کی ، ملاقات

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے گرین وستھرا پنجاب، ڈیٹا اتھارٹی سمیت مختلف شعبوں میں بہتری کے ایجنڈے پر امریکی وفد کو بریف کیا۔مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ تعلیمی نصاب میں بھی ماحولیاتی بہتری کےمضامین شامل کئے جا رہے ہیں، پنجاب کو پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل

صوبہ بنارہے ہیں، 40سے زائدخد مات گھر کی وہلیز پرفراہم کریں گے۔وفدنے وزیراعلی مریم نواز کے ماحولیات اوراصلاحات کے ایجنڈ بے میں تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ یں تعلیم، صحت عامه، ماحولیات سمیت دیگر سموگ اور ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے میں امریکہ

شعبول میں تعاون اور دوطرفہ تعلقات کے پنجاب حکومت کا ساتھ دےگا۔

نوزہ مراسرائیلی بمباری کے بعد عمارتوں سے دھواں اٹھ رہاہے

#### س نفقوی کی وزیراعلیٰ ہاؤس پیٹاورآ مدعلی امین سے ملاقات

وٰی کی 'وزئر اعلیٰ ہاؤس' یشاور آمد، وزیراعلیٰ ہے ۔ جبکہ صوبے میں امن وامان کی صور تخال کو بہتر بنانے کے لئے وفائی اور صوبائی سطح پر قانون نافذ کرنے لا قائب موتے ہیں۔ ان وادان کے معاملات رِتبادلہ خیال کیا گیا، وفاقی اور صوبا کی طریر تا فین نافذ ۔ والے اداروں کے درمیان کو آرڈ بنیشن کو بہتر بنانے گرنے والے اداروں کے درمیان کو آرڈ بنیشن کو ۔ پر اتفاق کیا گیا مانا قات میں گذشتہ روز چینی باشندوں پر حملے کی مذمت۔ دونوں رہنماؤں کا چینی حکومت ہتر بنانے پراتفاق۔وفاقی وزیرداخلہوزیراعلیٰ ہاؤس يهنيج اور وزيراعلى خيبر پختو تخواعلى امين خان گندُّا رپور

بَیْنگ بازی خونی کھیل ،ملوث افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں ،سر دارغیاث

ہرز مین اٹک کومنشات فروشوں سے باک کر کے دم لیں گے،خلاف ورزی کر نیوالوں کیخلاف سختی سےنمٹا جائرگا،ڈی بی او

انگ (ڈسٹرکٹ دیوٹر)حکومت پنجاب کے سلوگن ایم ایس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہیتال اٹک ڈاکٹر جواد انہی، سید فاروق حسن بخاری،جادیر شمیری، ماننی خان شیخ بابر

يَّتِكُ بِهارُوهُ وُورِ جالوهِ خُونِي كھيل ہےسب كو بجاواور شه 🔻 خاتون صدر دُسرُك بار ايسوى ايش انك رضوانه 🧈 قيوم، منهاب منيرخان منه كي صدرياكتان جزئك اليسوى ايش

ے انکار زندگی سے پیار عملی جامہ پہناتے ہوئے وزیر 💎 راجہ جمزل سیکرٹری ملک محموعاتان دیگر عہد بداران ڈی 📗 ایشن طارق محمود، کوآر دبینیز خزہیم نعمت خٹک ہنائب صدر

اکلی جنجاب مریم نواز شریف اور آئی تی چنجاب کے 📗 ایس پی ٹریفک چوہدری طاہر عباس ایس انتج او تصانبہ 🔻 جادیدخان، شام خان اعوان مداشداویس قمر جعفری مطاہر

احکامت کی روشی میں ڈی پی اوڈ اکٹر سروار خیاے گل خان کی ملک مجاہوع ہیں، ایس ان کی اوقت میں دورانگ صفار خان، پی نقاش ہلیان شوکت، اس اتذہ کرام طلبہ اور سول سوسائٹی کی

قیادت میں ڈی پی اوآفس اٹک تا بجہری چوک اٹک تک آر اوٹو ڈی پی او ملک محمد تھیم ہوسیم صادق ہاقب جمیل نمبلیل شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہریلی ہے

نلع مجر میں بینگ بازوں، بینگ فروشوں اور منشیت خنگ عظمت خان چیئرمین انک پریس کلب رجسرو ططاب کرتے ہوئے ڈی پی اونے کہا کہ بینگ بازی اور

فروثوں کے خلاف آگاہی واک کااہتمام کیا گیا جس میں ندیم رضاخان،وأس چیئر مین سعید آفریدی سینئر صحافی پینگ فروش ایک خونی کھیل ہے

۔ اور ہلاک شدگان کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی

نے پاکستان میں ہوئے بیشتر دہشتگر دحملوں میں اسكي برآ مدكيا، تربت حملي مين دبشتگر دول سايم 32 ملٹی شاٹ گرنیڈ لانچ ، ایم/16اے4، نائب قرمِل وژن اور دیگراسلحه بھی برآ مد ہوا۔سکیورٹی اسلحه ملا، 22 جنوری کوسمبازا ژوب پر دہشتگر دوں

کومیرانشاہ میں پاک افغان سرحد پر دہشتگر دول سے ملا اللح بھی غیر ملکی تھا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ امریکی ساختہ استعال ہوئے کا انکشاف کیا سے ملا اسلح بھی غیر ملکی تھا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ مجھی ڈوب گیریٹن پر جملے میں ٹی ٹی کی ہے۔ امریکی ہے۔ تسمیدرٹی ذرائع کے مطابق تربت جملے میں 13 دیمبر 2023 کو باجوڑ میں سرچد پار کرنے اسلحہ استعال کیا۔ تسمیدرٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سکیورٹی فورسز نے باتھوں ہلاک 6 متبر 2023 کو ٹی ٹی کی دشکر دوں نے امریکی ساختہ والے 3 دہشکر دیسیدرٹی فورسز کے باتھوں ہلاک 6 متبر 2023 کو ٹی ٹی کی دائشگر دوں نے امریکی ذرائع کا کہنا ہے کہ 27 جنوری کوشالی وزیرستان اور گولہ بارود برآ مدہوا، پہلے بھی متعدد بار پاکستان میں دہشکر دئیک من اللہ سے بھی امر بکی ساختہ میں دہشگر دہملوں میں غیر مکلی ہتھیار استعال

ہوئے، ہلاک دہشتگر دوں سے بھی ایم 4 کار بائن امر کی ساختہ اور دیگر اسلحہ الما 29 دیمبر کو میر علی میں دہشگر دول سے اے کے 47، ایم کم کاربائین ہوئے۔ذرائع کے مطابق بی ایل اے نے انہی

یا کستان میں بیشتر دہشتگر دحملوں میں امر کمی اسلحہ استعال ہو نیکا انکشا ف

ت حملے میں دہشتگر دوں سے ایم 32 ملٹی شاٹ کرنیڈ لا کچ، ایم /16اے 4، نائٹ تھرمل وژن اور دیکراسکھ برآ مد

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) سکیورٹی ذرائع 👚 سے برآ مداسلح بھی غیرملکی ساختہ تھا جبکہ 19 جنوری 🥏 ہتھیاروں سے فروری 2022 میں نوشکی اور پھجور

ہتھیاروں سے چترال میں 2چیک پوسٹوں پرحمکہ كيا، 4 نومبر 2023 كوميانوالي ائيربيس يرحط میں دہشتگردوں کے پاس سے برآ مدہونے والا اسلحه غيرمكي ساخته تفا-12 دىمبر 2023 كو درابن

میں دہشتگر د حملے میں نائٹ وژن گوگلز اور امریکی رائفلز استعال ہوئیں

·اسلام آباد، بی تی آئی کے رہنما ہیرسٹر گو ہرمیڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.

تعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیول چیف نے ایاک جریہ کی صلاحت کی ضروریات کے بارے میں معیشت ملک کورویش تمام چیلنجر سے منٹنے کے لئے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ حکومت معاشی تق میں میری خصوص طور پرآگاه کیا گیا۔ آبیس میری ٹائم سیٹر کے معاثی ٹائم سیکٹری افادیت کے پیش نظراس کی ترقی کیلئے کوشاں استعداد سے فائدہ اٹھانے کے اقدامات سے بھی آگاہ کیا

ہے پوری قوم اپنی جرات مند سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔وزر اعظم نے تربت نیول ائیر بیس پر ومشكر دجمله ناكام بناني برياك بحريب كي جوانول كوخراج تحسین پیش کیا۔ اور میں وزیراعظم نے پاک بحربیے كمانذآ يريشن سينثركادوره بهمى كيا

وزىراطلاعات كااين اے127 سے كاميابى كانو فيفكيش چيلنج لا ہور (بیوروورٹ) پاکتان مسلم لیگن کے ہے۔الیکش ٹربیول کے نیج جسٹس سلطان تنویر

گیا۔وزیراعظم نے محدودوسائل کے باوجودملک کے بحری

مفادات كتحفظ كي لي ياك بحريدي خدمات كوسرالد

انهول في نيول ايربيس تربت برحاليده شت كردانه حمل

کوناکام بنانے کے لیے ماک تربیت پیشرواراندرڈل کو خصوصی طور پر مرابلہ وزیراعظم نے زوردے کرکہا کہ مضبوط

رہما و وفاتی وزیرا طلاعات عطا تارڑ کی لا ہور کے دونوں درخواستوں پر ساعت کریں گے، انتخابی علقه این اے127 سے کامیا بی کا نوشفکیشن چینئے کر عذر داریوں میں الکیش کمیشن سمیت دیگر کوفر ت دیا گیا۔لاہور کے حلقہ این اے 127 ہے لیگی بنایا گیاہے۔پاکتان مسلم لیگ ن کے رہنماووفا تی

رہنماعطا تارڑ اور بی بی 145 سے سمیع اللہ خان کی وزیراطلاعات عطا تارڑ کی لا ہور کے حلقہ این اے کامیابی کو لاہور ہائیکورٹ میں چیلنج کیا گیا ۔ 127 سے کامیابی کا نوٹیفکیشن چیلنج کردیا گیا ۔

اسلام آباد،صدرمملکت آصف علی زرداری سے برطانوی بائی کمشنرجین میریث ملاقات کررہی ہیں

#### سپریم کورٹ، قادیانی شہری کی ضمانت کیس،علماء سے 2 ہفتے میں تحریری رائے طلب

ہے؟ عدالت کا کہنا تھا کہ علما اپنی رائے عدالتی

نِصْلَح میں میں اٹھائے گئے نکات تک محدود

ر کھیں ۔مقررہ وف**ت کے بعد آنے والی آ**را کوشار

نہیں کیا جائے گا۔سو<mark>ل مقد مات میں متعلقہ افراہ</mark>

کو فریق بنایا جاسکتا ہے۔ فوجداری مقدمات میں

فریق صرف مدعی،ملزم اور حکومت کو بنا سکتے ہیں۔ فریق بنائے بغیر بھی تمام علما کی رائے کوسنا جائے گا۔

مزید ساعت علما کی رائے جاننے کے بعد ہوگی۔سپریم کورٹ نے قادیانی شہری کی ضانت

کے کیس میں علما سے 2 ہفتے میں تحریری رائے طلب

کرلی۔سپریم کورٹ میں مبارک احمد صفانت نصلے پر

اسلام آباد(شاف ربورٹر)سپریم کورٹ فی گے۔ اسلام میں مسلمان کی تعریف کیا نے قادیانی شہری کی ضانت کے کیس میں علاسے 2 ہفتے میں تحریری رائے طلب کر لی۔سپریم کورٹ میں مبارک احمد صانت فیطے پر نظر ثانی درخواستوں کی ساعت ہوئی۔عدالت نے تمام درخواست گزارعلاسے 2 بفتے میں تحریری رائے طلب کرلی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے کہا کداگر عدالت سے فیصلے میں غلطی ہوئی ہے تو اصلاح کریں گے۔ ڈنڈے اٹھا کرفساد کرنے سے بہتر ہے مناسب طریقہ اختیار کیا جائے۔ شرعی معاملہ ہے غور وفکر کے ساتھ چلنا جائے ہیں۔علاسے قانونی رائے نہیں لیں گے۔شریعت

میں علا کاعلم ہم سے زیادہ ہے اس پر رہنمائی لیں نظر ثانی درخواستوں کی ساعت ہوئی۔

پیاور، وفاقی وزیروا خلمحسن نقوی وزیراعلی خیبر پختو نخواعلی امین گند ابور سے ملاقات کررہے ہیں

#### فوجى عدالتول كومحفوظ شده فیصلر سنانر کی مشروط اجازت

اسلام آباد (ساف رپورٹر)سپر يم كورث نے أجازت دى بھى تواپيلوں كے حتى فيلے سے مشروط فوجی عدالتوں کو محفوظ شدہ فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دے دی۔ نجی ٹی وی کے مطابق سیریم کورٹ مين فوجي عدالتول كيخلاف فيصله برانثرا كورث ابيلول برساعت ہوئی۔اٹارنی جزل منصور عثان نے بتایا کہ 20افرادایسے ہے جنگی عیدسے قبل رہائی ہوسکتی ہے، بریت اور کم سرزاوالول کورعایت دیکرر باکیا جائے گا، موے بدایت کی کصرف ان کیسر کے فیطے سنائے جن کی سزاایک سال ہے انہیں رعایت دیدی جائے جائیں جن میں نامزد افراد عیدسے پہلے رہا ہوسکتے گی، مجموعی طور پر 105 ملز مان فوج کی تحویل میں ہیں، سہیں، اٹار نی جزل نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کم سزا جن کی رہائی کیلئے تین مراحل سے گزرنا ہوگا، پہلا مرحله محفوظ شده فيصله سنايا جانا، دوسرااسكي توثيق هوگي، تیسرا مرحله کم سزا والول کوآرمی چیف کی جانب سے رعایت دینا ہوگا۔اٹارنی جزل نے فوجی عدالتوں کو

کی۔اس پر جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اگر کی استدعا کی تھی۔

ہوگی۔جسٹس حسن اظہر رضوی نے بوچھا کہ جنہیں رہا كرنا ہے الكے نام بتاديں۔ اٹارنی جزل نے جواب دیا کہ جب تک فوجی عدالتوں سے فیصلے نہیں آ جاتے نام نہیں بتا سکتا۔سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو مخفوظ شدہ فیلے سانے کی مشروط اجازت دیتے والول کوقانونی رعایتی دی جائیں گی، فیصلے سنانے کی اجازت اپیلول پرحتی فیلے سے مشروط ہوگی۔سپریم کورٹ نے کے فی حکومت کی اپلیس واپس لینے کی استدعا بھی منظور کرلی۔ کے بی حکومت نے سویلنز کا

مِين الفيسي پر حملے كيے جبكه 12 جولا في 2023 كو

769ویں بریگیڈ کے ہیڈکوارٹر پر درجنوں راکٹوں كے ساتھ ساتھ روبيات العالم ، برانيت ، مسكاوام ، ور رامیم سمیت کئی دیگر اسرائیلی مقامات برحمله کیا ہے۔لبنانی سکیورٹی ذرائع کے مطابق حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جھڑ بوں میں لبنان کے 388 افرادجان کی بازی ہار چکے and the state of t محفوظ شدہ فیصلے سنانے کی اجازت دینے کی استدعا مراکل کالعدم قرار دینے کیخلاف دائرا پیلیں واپس لینے

اسلام آباد، وزیراعظم محدشهبازشریف کی نیول بیڈکوارٹرز آمد پرسربراہ پاک بحربیا یڈمرل نویداشرف ملاقات کررہے ہیں

#### 9 مئی حملے کے ملز مان کی ضانت کا تحریری فیصلہ جاری كراجي،رانا ثناالله كےخلاف مقدمہ اسلام آباد (سیش ر پورٹر) سریم کورٹ نے 9 سربراہی میں تین رکنی 🕉 نے 0 2 مارچ اندراج كيلئة درخواست ير بوليس كونولس

كراچى (بيورور بورث )سيش جج جنوبي كراجي في مسلم ليك ن كر بنمارانا ثنااللد ك خلاف کراچی میں مقدمے کے اندراج کے لیے علاک تراپی می سفت ہے۔ امدران سے بے درخواست برسماعت کی ہے سیشن نتج جنو بی کرا پی نے ایس انتج او پر بیڈی پولیس انتیش اور ایس پی کمپلین میں کو ٹوش جاری کر دیا سیشن نتج جنوبی نے فریقین ہے 30 مارچ تک جواب طلب کر بیا۔درخواست گزارنے موقف اختیار کیا ہے

دويژن مين تعينات يوليس افسران و جوانول كي

کارکردگی اور ذہنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لئے

نفسیاتی امتحان کا سلسلہ جاری ہے،اس سلسلہ

میں وزارت خارجہ کی طرف سے بیرون ملک

جانے والے پولیس افسران و جوان کا نفسیاتی

امتحان لیا گیا،امتحان کا مقصد افسران و جوانوں کی

سکی کوحساس ادارے کے دفتر پر حملے کے ملز مان کی 💎 کوسنایا تھااب اس کاتحریری فیصلہ جاری کیا گیاہے صانت کا تحریری فیصلہ جاری کردیاہے جس میں سسجس میں مزید کہا گیاہے کہ ٹراکل کورٹ شواہد کہا گیاہے کہ ملزمان پر الزامات عمومی نوعیت کے سریکارڈ کرتے ہی ملزمان کی ذمہ داری کالغین کرسکتی ہیں،خوش قسمتی سے تو ڈبچیوڑ واقعات میں کوئی زخی ہے،بادی النظر میں ایسے شواہر نہیں کہ ملز مان کو ہوا نہ ہی ملزمان سے کوئی اسلحہ پرآمد عیر معینہ مدت تک تحویل میں رکھا جا سکے، ہوسکا فیصلتوڑ پھوڑ میں ملزمان کا کردار مزید تحقیق نیصلد رخواست گزار ملزمان سیلے ہی گزشتہ سال طلب ہے، فیصلہ جسٹس جمال الدین مندوخیل کی دس مئی ہے گرفتار ہیں

# وفاقی بولیس افسران اہلکاروں کے نفسیاتی امتحان شروع کرنیکا فیصلہ

#### متحان کا مقصد افسران و جوانوں کی کارکردگی کو مزید بہتر <sub>ب</sub>نانا ہے،آئی جی ڈاکٹ<mark>ر اکبر نا</mark> صر اسلام آباد (سٹی رپورٹر)وفاقی بولیس سکیورٹی

حَتَىٰ، تمینی میں ایس ایس بی سکیورٹی ڈویژن کو چيرُ مين تعينات کيا گيا جبکه ايس يي انسداد د بشتگر دی ڈیپارٹمنٹ، ایس پی ہیڈکوارٹرز اور طبعی نفسیاتی ماہرین تمیٹی کے ممبران ہیں، امتحان میں وزارت خارجه کی سیکورٹی پر مامورافسران وجوانوں نے حصہ لیا، امتحان میں افسران و ملاز مان کو در پیش

مطابق اسلام آبادلىپيىل شى يولىس آفيسر ڈا كٹرا كبر ناصرخال کےخصوصی احکامات کی روشنی میں اسلام آباد لیپیل پولیس کے اضران وجوانوں کی استعداد کا رکو بردھانے کا سلسلہ جاری ہے،اس سلسلہ میں وزارت خارجہ کی طرف سے بیرون ملک جانے والے اسلام آبادلیویل پولیس کے افسران وجوانول کی کارکردگی اور ذہنی صلاحیتوں کو کارکردگی کو مزید بہتر بنانا ہے۔تفصیلات کے کہتر بنانے کے لیے نفسیاتی امتحان لیا گیا،اس

حوالے سے خصوصی نفساتی سمیٹی بھی تشکیل دی مسائل کے حل کیلئے سفار شات مرتب کی گئی

# The Asian Telegraph

#### Pakistan to continue political, diplomatic support to Kashmiris: FO

ISLAMABAD: Pakistan will continue to extend political, diplomatic and moral support to Kashmiri brothers and sisters for the just and peaceful settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the United Nations Security Council Resolutions

Speaking at the weekly press briefing, the Foreign Office Spokesperson said, "the Indian occupation authorities are reportedly set to auction some blocks of Lithium reserves, discovered in the Indian Illegally Occupied Jammu and Kashmir (IIOJK) There are concerns that corporations from outside the occupied region would be awarded the contracts to exploit this valuable resource that belongs to the Kashmiri people. These measures by the occupation authorities to deprive Kashmiris of their right to natural resources are illegal and exploitative." "IIOJK must not be deprived of its natural resources. The people of Kashmir have the foremost right over the wealth of their homeland, including precious metals like Lithium. We call on India to abandon such exploitative plans and respect the right of Kashmiris to their own land and natural

She said Secretary Commerce Khurrum Agha visited Afghanistan from 24-27 March 2024 to discuss bilateral and transit trade matters with Minister for Commerce of Afghanistan, Nooruddin Azizi. The two sides discussed bilateral Preferential Trade Agreement, implementation of Temporary Admission Document (TAD) for trade vehicle drivers, multimodal air transit and addressing issues related to transit trade. "We are encouraged by the progress made on these issues and remain committed to promoting trade and people-to-people ties with Afghanistan. She said the Government of Pakistan was in contact with the Chinese government following the heinous terrorist attack of 26 March 2024 near Besham that claimed the lives of five Chinese nationals.

"We are fully committed to bringing the terrorists and their facilitators and abettors to justice.

Such despicable acts further strengthen Pakistan's resolve in combating terrorism in all its forms and manifestations.

'Pakistan and China are close friends and iron brothers. We have no doubt that the Besham terror attack was orchestrated by the enemies of Pakistan-China friendship. Together, we will resolutely act against all such forces and defeat them. Pakistan will continue to work with our Chinese brothers in ensuring the safety and security of Chinese nationals, projects and institutions in Pakistan.'

She said, "It has been three days since the adoption of the UN Security Council resolution calling for an immediate ceasefire in Palestine. However, the Israeli war on the people of Gaza continues unabated and the Palestinian people continue to face starvation and genocide. We call on the backers of Israel to urge Israel to bring to an end the massacre of the Palestinian people, lift the inhumane siege and allow humanitarian assistance to all parts of Gaza.

"The international community must also redouble its efforts for a just and durable solution to the Palestine question and for the creation of an independent, viable, sovereign and contiguous Palestinian State along pre-June 1967 borders with Al-Quds-Al-Sharif as its capital," she added. APP



HYDERABAD: Federal Minister and Convener MQM Pakistan Dr Khalid Magbool Siddigi addressing a press conference during the Ration distribution ceremony, organized by Khidmat-e-Khalq Foundation at

# Gov't to form independent inquiry commission on 'IHC judges' letter', says Law Minister



VOM Report

ISLAMABAD: Minister for Law and Justice Azam Nazeer Tarar on Thursday said that the federal government has decided to place the IHC judges' letter before cabinet meeting tomorrow for formation of an independent inquiry commission into the matter.

He said that the commission would be headed by a reputable retired judge and its terms of references (TORs) would be final-

ized after the consultation with attorney gen-

eral of Pakistan.

He was addressing a press conference here in Islamabad along with Attorney General of Pakistan Mansoor Usman Awan.

Azam Nazeer Tarar said that the letter has been trending in the media and social media. Now, it is the duty of the government that this matter should be investigated, he said, adding that the Prime Minister would place this matter in the cabinet meeting tomorrow.

The minister said that the Prime Minister had said that he would go to meet the Chief Justice despite all of his busy schedule. The meeting between the Chief Justice of Pakistan Qazi Faez Isa and the Prime Minister Shehbaz Sharif lasted for one and a half hours, he said, adding that the most senior judge Justice Mansoor Ali Shah was also present in the meeting. The issues pertaining to the important national issues including economic and judges' letter were also came under discussion, he said.

Tarar said that we leave it to the judiciary to decide whether the judges' letter is misconduct or not. He said that the TORs of the inquiry commission would also include this letter and past cases as well.

He further said that in his opinion when such matters come up, they should not be suppressed. Whatever commissions we have formed, they have been bringing all the things to public, he added.

The law minister further said that one of the senior retired judges would be requested to head the commission. The prime minister is determined that the country should run according to the constitution, he said

He said that the prime minister has stated that no compromised would be accepted on the freedom and independence of the judiciary. He said that the PM has also stated that there should be no interferences in institutions and every institution should respect other. Azam Nazeer said that the federal government has taken up the matter as serious and with good intention.

#### Russian Ambassador congratulates Jam Kamal on assuming charge, discuss trade connectivity

ISLAMABAD: Russian Ambassador to Pakistan, Albert Khorev, engaged in discussions with Federal Minister for Commerce, Jam Kamal Khan, aiming to enhance trade connectivity and tap into the true potential of bilateral trade.

Minister Jam Kamal emphasized the need for exploring new routes and avenues to bolster trade relations. He commended the successful initiation of Kino exports to Russia by road and expressed the possi-

bility of further increasing trade in this sector. Additionally, the Minister acknowledged Russia's vast market potential, offering Pakistani exporters ample opportunities for growth and diversification. During the meeting, Ambassador Khorev extended an invitation to Minister Jam Kamal for upcoming exhibitions scheduled in April and July.

In a bid to expand trade horizons, the Ambassador proposed the export of Halal meat from Pakistan to Russia. Minister Jam Kamal highlighted concerns regarding visa issues faced by Pakistani truck drivers, prompting the Ambassador to seek immediate proposals for resolution. Ambassador of Russia also conveyed the desire of Russian side to host 9th session of Inter Governmental Commission (IGC) in Moscow at an early date. INP

#### Punjab CM orders policy formulation to export buffalo meat and milk to China

LAHORE: Punjab Chief Minister Maryam Nawaz ordered policy formulation to export buffalo meat and milk to China. China imports US \$17 billion worth of meat and US \$2 billion worth of milk annually, Gwadar Pro reported on Thursday.

In a meeting on the Livestock Department, the CM reviewed the livestock related measures.

The CM stressed that only vaccinated and tagged cattle would be brought to cattle markets and slaughterhouses, adding that authentic data of cattle should be prepared and regularly updated.

She directed the authorities concerned to pay special attention to research and development. Maryam Nawaz was briefed on the export potential

of livestock sector. She said more work was needed for disease control and breed improvement.

She ordered to create disease control department in Punjab. She said the foot-and-mouth disease (FMD) control programme should be made more effective, adding that vaccination for the disease should be produced locally in large quantities.

An advanced mechanism must be created to increase the export of dairy products, she ordered. The authorities concerned apprised the CM that up-gradation of vaccine production labs would cost Pakistani Rs 360 million, and up-gradation of zoonosis centre would cost Rs 299 million. It was also briefed that the breed improvement could increase yield by up to 15-25 percent. Earlier, the Chief Minister was apprised that livestock accounts for 14.36 percent of the country's Gross Domestic Product (GDP). Punjab produces country's 62 percent milk, 43 percent meat, 33 percent mutton, and 65 percent poultry meat. INP

#### Senate elections in KP hang on reserve seat oath-taking, states ECP



ISLAMABAD: The Senate elections in the Khyber Pakhtunkhwa Assembly depend on the oath-taking of reserve seats, said the Election Commission of Pakistan (ECP) in a seven-page verdict issued Thursday. In its verdict, the Election Commission warned

of suspending the Senate poll until oaths are administered in the Khyber Pakhtunkhwa province. The commission instructed the Speaker of the KP Assembly to enforce the decision made by the Peshawar High Court. A five-member bench led by Chief Election Commissioner (CEC) Sikandar Sultan Raja, along with members Nisar Ahmed Durrani, Shah Muhammad Jatoi, Babar Hassan Bharwana, and Justice (Retd) Ikram Ullah Khan, delivered its verdict on the plea regarding the non-administration of oaths to newly elected members on reserved seats in the Khyber Pakhtunkhwa assembly

In its verdict, the commission emphasized that the right to vote is fundamental and no voter can be deprived of this right. The commission stated that it has sufficient authority to issue such directives and consequential orders to ensure that elections are conducted with honesty, justice, fairness, and in accordance with the law. "Hence, if there is noncompliance with the directives issued under Article 218(3), along with Section 4(1) and Section 8(c) of the Act, the Commission may extend the time for completing the Senate election in the province of Khyber Pakhtunkhwa until the oath is administered to the Provincial Assembly members, including the applicants." APP

#### FM, UK High **Commissioner discuss** bilateral ties



United Kingdom High Commissioner to Pakistan Jane Marriott called on Minister for Foreign Affairs Ishaq Dar on Thursday and discussed various aspects of bilateral relations regional developments. They agreed to

SLAMABAD

further advance bilateral cooperation between Pakistan and the United Kingdom in all areas of mutual interest, including trade and investment, peace, security, and development cooperation. APP

ISLAMABAD: Minister of State for IT and Telecommunication Shaza Fatima Khawaja in a meeting with delegation of Pakistan Software Houses Association (P@SHA). APP

#### Constitution of Pakistan upholds principle of equality prohibiting gender discrimination: Ombudsman



ISLAMABAD: Federal Ombudsman of Pakistan Ejaz Ahmad Qureshi has said that the Constitution of Pakistan upheld the principle of equality and dignity along with explicitly prohibiting gender discrimination in all

spheres of national life. This he said while inaugurating a 'Webinar on Protection Against Harassment of Women at the Workplace', organized under the aegis of Asian Ombudsman Association (AOA) here, said a press release issued Thursday.

The webinar was attended by the members of the AOA besides the human rights practitioners and activists in addition to the members of the OIC Ombudsman Association (OICOA) and the Forum of Pakistan's Ombudsman (FPO).

He said that the Parliament adopted an Act for Protection Against Harassment of Women at the Workplace in 2010 with a view to implementing the relevant provisions in the Constitution and ensuring equal opportunity for men and women and the right to earn a livelihood without fear or any discrimination.

Ejaz Ahmad Qureshi, who is also the current President of the 47-member strong Asian Ombudsman Association further stated that the enactment of the relevant law against harassment in 2010 was followed by two more Acts of the Parliament in 2020 and 2022 respectively, expanding the scope of its legal provision to include men, women and transgenders alike. Enforcement of the Women's Property Rights was also brought within the purview of these legislative provisions, he added. He said that the Webinar is intended to share Pakistan's experiences, best practices and the exchange of information with a view to promoting gender equality and the right to work with dignity for all. Later Ms. Fauzia Viqar, Federal Ombudsperson Protection Against Harassment of Women at the Workplace (FOSPAH) also made a presentation on the scope of work and operational framework of the FOSPAH, which was established in 2011. She said that FOSPAH was playing a vital role in upholding the constitutional provision of equality and dignity alongwith striving to create an environment free of harassment and discrimination. She further added that Pakistan has the distinction as being the only country with a dedicated Ombudsperson Institution to deal with the challenges of women empowerment and denial of rights, thereby emphasizing the need for support to over 49 percent of the population. The presentation was followed by a lively Q/A session, wherein international participants asked searching questions about Pakistan's experiences in these fields and requested for sharing of best practices to move forward. Organized in the backdrop of the International

Women's Day, the webinar held special significance for the member states as these are striving to overcome identical challenges particularly with regard to women empowerment and protection. So far, the Wafaqi Mohtasib Secretariat has received nearly 75 confirmations to attend the Webinar online. APP

#### SC authorises military courts to pronounce reserved verdicts of those May 9 violence cases in which accused could be released before Eid-ul-Fitr

Pakistan on Thursday authorised military courts to pronounce reserved verdicts of those May 9 violence cases in which the accused could be released before the Eid-ul-Fitr.

A six-member larger bench headed by Justice Aminuddin Khan and including Justice Muhammad Ali Mazhar, Justice Syed Azhar Hasan Rizvi, Justice Shahid Waheed, Justice Musarrat Hilali and Justice Irfan Saadat Khan heard the 54 petitions filed against declaring the military trial of the civilians by Supreme Court null and void. The apex court's orders came after the Attorney General for Pakistan, Mansoor Usman Awan, requested permission to pronounce the reserved verdicts during the hearing of the intra-court appeals filed against its decision declaring the military trial of civilians "null and void". Towards the end of the hearing on Thursday, the court said that the AGP has assured that statutory concessions would be granted to those with lesser sentences, while permission to pronounce judgment shall be subject to a final decision on appeals.

ISLAMABAD: The Supreme Court of The court also directed the AGP to "A total of 105 accused are in the cussubmit an implementation report regarding the case to the Registrar Supreme Court as well as sought details of those who were sentenced to less than three years.

tice Muhammad Ali Mazhar addressed the AGP and said: "Try to release them three to four days before Eid." "Yes, we will try," Awan said, responding to the SC judge. Faisal Siddiqui, a lawyer representing

one of the clients challenging military trial feared the released could get arrested again under the 3 MPO after coming out.

The AGP said 20 people could be released before Eid. "There are three steps to be followed for the release of 20 persons.' The first step, he stated, was to pro-

nounce the reserved judgment; the second to confirm it; and the third step would be to grant leniency to those with lesser sentences by the chief of army staff.

He added that the acquitted and those with reduced sentences would be released with concessions.

tody of the army," the AGP told the court, requesting permission for pronouncement of reserved verdicts.

"Even if permission is granted, it will be subject to the final decision of the During the hearing of the case, Jusappeals," Justice Aminuddin Khan remarked. Justice Syed Hasan Azhar Rizvi asked the AGP to name the accused who are to be released. The AGP responded saying that he couldn't say the names until the verdict came from the military courts.

"Those whose punishment is one year will be given a discount," Awan said. Meanwhile, one of the petitioners and senior lawyer, Aitzaz Ahsan shared his disappointment upon hearing the AGP. During Thursday's hearing, lawyer Faisal Siddiqui contended that if the accused in question had been tried in regular courts then they would have been released or granted bail by now. He argued that there was

"You want to try the case in anti-terrorism courts," Justice Mazhar remarked, pointing out that the punishment by such courts was not less

no evidence in these cases.

Justice Shahid Waheed then asked about the charges under which the first information reports (FIR) had been registered. At this, Attorney General for Pakistan (AGP) Mansoor Usman Awan replied that FIRs were registered under the Official Secrets Act and the Anti-Terrorism Act. "Then why don't we grant bail to the

accused? Why don't we suspend their sentence?" Justice Waheed asked. The AGP replied that the punishment must first be handed down before it

could be suspended. "Bail can only be granted when the court says the law cannot be applied," Awan said. The attorney general then urged the apex court to allow military courts to announce the reserved verdicts. "Even if permission is granted, it will be subject to the final decision on the

appeals [against the Oct 23 ruling], Justice Aminuddin Khan remarked. Subsequently, the SC gave conditional permission to military courts to announce the reserved verdicts. It directed that judgments announced in cases in which the nominated suspects could released before Eid. SABAH

Printed at Rouhani Art Press, Published by Amna Malik for Melange Media Group from Office # 408, 4th Floor, Evacuee Trust, Agha Khan Road, F-5/1 Islamabad